

15 جون، 2020

عزیزی اہل خانہ،

مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک محفوظ اور آرام دہ ہفتہ / اتوار کے دن گزارے ہوں گے۔ میں آپ کو ہمارے شہر کے ملازمین کی جانب سے فراہم کردہ دو اہم اقدامات کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں جو آپ فوراً کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے شہر کے مستقبل کے بارے میں آپ کی آواز سنی جا سکے: 2020 ریاستہائے متحدہ مردم شماری مکمل کریں اور منگل 23 جون کو پرائمری انتخاب میں ووٹ ڈالیں۔ آپ کو ذیل جاننے کی ضرورت ہے:

23 جون کو پرائمری انتخاب میں ووٹ کیسے ڈالا جائے

اس مہینے، نیویارک شہر بھر میں پرائمری انتخابات منعقد ہوں گے۔ آپ کے ضلع میں کون حصہ لے رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے ذیل پر جائیں nyc.pollsiterecator.com

آپ اس طرح ووٹ ڈال سکتے ہیں:

ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالیں

• COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، نیویارک کے تمام افراد پرائمری انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے قابل ہیں آپ کو اپنے ای میل بیلٹ کی درخواست منگل، 16 جون، تک ذیل پر آن لائن کر دینی چاہیے nycabsentee.com، یا 1-1866-NYC-VOTE پر کال کر کے، یا ڈاک کے ذریعے۔

• وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں، آپ اپنے موجودہ پتے پر اپنا بیلٹ منگوانے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ کو اپنا بیلٹ مل جائے آپ کو اسے مکمل کرنا چاہیے اور اسے منگل، 23 جون کی تاریخ تک پوسٹ مارک کر دینا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ذیل پر جائیں vote.nyc

بذات خود ووٹ دینا

• بذات خود ووٹ دینے بشمول قبل از وقت ووٹ ڈالنا ابھی دستیاب ہے۔ آپ اب بھی قبل از وقت ووٹنگ کے دورانیے کے دوران اتوار، 21 جون تک، یا 23 جون انتخاب کے دن تک ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

• اگر ممکن ہو سکے، ہم قبل از وقت ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کریں گے، جب کم بھیڑ کی توقع ہوتی ہے اور قطار قدرے مختصر ہوتی ہیں۔ اپنی قبل از وقت ووٹ ڈالنے کے مقام، انتخاب کے دن کے مقام اور پول سائٹ کے اوقات کار کی معلومات کے لیے، ذیل پر جائیں nyc.pollsiterecator.com

• مستقبل کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کروانے، اپنے موجودہ اندراج کی تجدید کرنے، اپنی تقرر کردہ پول سائٹ معلوم کرنے یا مزید معلومات کے لیے ذیل پر جائیں voting.nyc یا 311 پر کال کریں۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ مردم شماری کو کیسے مکمل کیا جائے

مردم شماری U.S کے لوگوں کی گنتی ہے جو دس سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے۔ اسے مکمل کرنا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے نیویارک شہر کے لیے دستیاب اہم تعلیمی ذرائع، اور ساتھ ہی دیگر اہم سرکاری فوائد اور انتخابی نمائندگی کا تعین ہوتا ہے۔

اس سال، مردم شماری کو مکمل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ آپ آن لائن 15 زبانوں میں پانچ منٹ میں اسے مکمل کر سکتے ہیں my2020census.gov یا فون پر 844-330-2020 پر کال کر کے۔

مردم شماری میں شہریت کے بارے میں سوال شامل نہیں ہے۔ اگرچہ آپ بغیر دستاویزات کے ہیں، مردم شماری کو مکمل کرنے سے آپ کو یا آپ کے خاندان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مردم شماری کے جوابات پوشیدہ رہتے ہیں اور وفاقی قانون کے تحت انہیں تحفظ حاصل ہے اور اسے کبھی بھی NYCHA، ICE، HRA، محکمہ تعمیرات یا دیگر سرکاری ایجنسیوں - یا آپ کے مالک مکان کے ساتھ اس کا اشتراک کبھی نہیں کیا جائے گا۔

آپ اور آپ کے اہل خانہ کی گنتی ضروری ہے کیونکہ مردم شماری کے نتائج سے انتہائی اہم تعلیمی سرمایہ، بشمول خاص تعلیمی گرانٹس، اضافی سامان، بہت ضروری ٹیکنالوجی کی دستیابی، اور ہمارے کلاس رومز کے لیے مزید اساتذہ کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے ابتدائی طفلی مراکز، اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر نوجوانوں کے پروگرامز، بچوں کی نگہداشت کے پروگرامز اور بہت کچھ کے لیے سرمایہ میں مدد ملتی ہے۔

مردم شماری کے اور بھی انتہائی اہم غیر تعلیمی مقاصد ہیں۔ ان میں اضافی غذائیت معاونتی پروگرام (SNAP) فوائد، ہسپتال میں نگہداشت، سستی رہائش اور بہت کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ، اس مردم شماری کا اثر ہر ریاست کی کانگریس میں اور انتخابی کالج کے ووٹوں میں نمائندگی کو مختص کرنے پر پڑتا ہے۔

اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ، ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور نیو یارک کے تمام باشندوں کی گنتی کرنے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے! ایک مکمل گنتی سے ہمیں اس عالمی وبا سے نکلنے اور معاشی اثرات سے نکلنے کے لیے ہمارے شہر کے لیے درکار وسائل مہیا ہوں گے۔

ایک صحت مند جمہوریت میں شہری شراکت انتہائی اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ذرائع آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے استعمال کے ہونگے۔

بخلوص،



Richard A. Carranza
چانسلر
نیویارک شہر محکمہ تعلیم